

65 سال سے کم عمر کے بچے اور بالغ افراد

این جے فیملی کیئر این جے کے مکینوں کے لیے سرکاری امداد یافتہ صحت کا بیمہ ہے۔ یہ مفت یا کم خرچ پر معیاری نگہداشت صحت فراہم کرتا ہے۔ این جے فیملی کیئر پروگرام میں CHIP، میڈیکائیڈ، اور میڈیکائیڈ ایکسپنشن پاپولیشنز شامل ہیں۔

اس میں کس چیز کا احاطہ ہے؟

این جے فیملی کیئر ریاست کے ذریعہ فراہم کردہ صحت کے منصوبوں کے ذریعہ نگہداشت صحت کا مکمل احاطہ فراہم کرتا ہے۔ این جے فیملی کیئر نگہداشت صحت کی زیادہ تر ضروریات کا احاطہ کرتا ہے بشمول:

- ڈاکٹر سے ملاقاتیں
- ایکسریز
- چشمے
- آئزم کی خدمات
- نسخے
- ہسپتال میں بھرتی
- دماغی صحت کی خدمات
- کمیونٹی ڈولا خدمات
- لیباریٹری جانچیں
- دانت کا علاج
- اسپیشلسٹ سے ملاقاتیں
- ذاتی دیکھ بھال کی ضروریات میں مدد

کون اہل ہے:

این جے کے کسی بھی عمر کے اہل مکین این جے فیملی کیئر کے اہل ہوسکتے ہیں۔ اس میں بچے، والدین، نگران رشتہ دار، اور ایسے بالغ افراد جن کے منحصرین نہیں ہیں۔ اہلیت آمدنی اور گھرانے کی جسامت پر مبنی ہوتی ہے جس کی اطلاع درخواست دہندہ کے تازہ ترین وفاقی ٹیکس ریٹرن میں دی گئی تھی۔ البتہ، این جے فیملی کیئر معلومات کی تصدیق کے لیے دیگر ذرائع کا بھی استعمال کرسکتا ہے، جیسے کہ ادائیگی کی رسیدیں۔ بچوں کے لیے اہلیت والی آمدنی بالغوں کے لیے اہلیت والی آمدنی سے زیادہ ہے۔ (چارٹ دیکھیں)

اس میں کتنی لاگت آتی ہے؟

بہت سے لوگوں کے لیے، این جے فیملی کیئر کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ بچوں کے ساتھ زیادہ آمدنی والے خاندانوں کے لیے شریک ادائیگیوں کا ایک سلائڈنگ پیمانہ ہے۔

کیا اس میں کوئی پابندیاں ہیں؟

پہلے سے موجود شرائط اہلیت کو متاثر نہیں کرتی ہیں سابل ہونے کے لئے بالغوں کو کم از کم پانچ سال کے لئے قانونی مستقل رہائشی کا درجہ ہونا چاہئے۔ بچے اور حاملہ خواتین، چاہے ان کے امریکہ میں داخلے کی تاریخ کچھ بھی ہو، اہل ہو سکتی ہیں اگر وہ قانونی رہائشی ہوں۔ غیر دستاویزی رہائشیوں کے لئے، ان کے بچے اہل ہو سکتے ہیں اگر ان کے پاس کوالیفائنگ امیگریشن کا درجہ ہے یا وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔

مزید معلومات کیسے حاصل کریں؟

یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا آپ اہل ہیں، یا مزید معلومات کے لیے، ہمیں کال کریں یا ہماری ویب سائٹ دیکھیں۔

1-800-701-0710 (TTY: 711)

(کثیر لسانی آپریٹرز دستیاب ہیں)

آن لائن درخواست دیں!

www.njfamilycare.org

NJ FamilyCare قابل اطلاق وفاقی شہری حقوق کے قوانین کی پابندی کرتا ہے اور نسل، رنگ، قومی نژاد، جنس، عمر یا معذوری کی بنیاد پر امتیاز نہیں برکتا۔ اگر آپ اردو بولتے ہیں تو زبان سے متعلق مدد کی خدمات آپ کے لیے مفت دستیاب ہیں۔ کال کریں 1-800-701-0710 (TTY: 711)۔